



جب مؤذن نے "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" کہا اور تم میں سے کسی نے "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" کہا

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب مؤذن نے "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" کہا اور تم میں سے کسی نے "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" کہا، پھر مؤذن نے "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہا اور اس نے بھی "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہا، پھر مؤذن نے "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کہا اور اس نے بھی "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کہا، پھر مؤذن نے "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" کہا اور اس نے "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" کہا، پھر مؤذن نے "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" کہا اور اس نے بھی "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" کہا، پھر مؤذن نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہا اور اس نے بھی سچے دل سے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔"

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

اذان لوگوں کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے کا اعلان ہے اور اذان کے کلمات عقیدے توحید پر مشتمل ہیں جنہیں جامع کلمات کہتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اذان سننے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ دراصل اذان سننے والے کو اسی طرح کے کلمات کہنے چاہیے، جو مؤذن کہتا ہے۔ مثلاً جب مؤذن "اللہ اکبر" کہے، تو سننے والا بھی "اللہ اکبر" کہے اور اسی طرح باقی الفاظ کو بھی اس کے ساتھ دہرائے۔ البتہ جب مؤذن "حی علی الصلا" اور "حی علی الفلاح" کہے، تو سننے والا "لا حول ولا قوة إلا باللہ" کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا ہے کہ جس نے مؤذن کے ساتھ اس کے ذریعے کہے گئے الفاظ کو سچے دل سے دہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کے کلمات کے معانی: "اللہ اکبر" یعنی اللہ پاک بڑا چیز سے عظیم، اونچے مرتبے والا اور بڑا ہے۔ "أشهد أن لا إله إلا الله" یعنی اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ "أشهد أن محمدًا رسول الله" یعنی میں اپنی زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کرتا اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور آپ کی اطاعت واجب ہے۔ "حی علی الصلا" یعنی نماز کی طرف آؤ۔ جب کہ سننے والے کے قول "لا حول ولا قوة إلا باللہ" کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی توفیق کی بغیر انسان کے پاس نہ اطاعت کے موانع سے گلو خلاصی کا کوئی راستہ ہے، نہ عبادت کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی دوسری چیز کی قوت ہے۔ "حی علی الفلاح" یعنی کامیابی کے سبب کی جانب آؤ۔ دراصل کامیابی سے مراد جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65086>

